

جلد الفترة 13 شعبال المعظم 1445 ه 24 فرور 2020 13 ما كن 2080 با صفحات المعظم 1445 ه 14 فرور 2020 ما المعظم 1445

غیر معمولی جنرل میٹنگ کا نوٹس ایل ایس ای دینچرز لمیٹر سمجھوتوں، انظامات اور تغیر نوکی اسکیم کی منظوری کے لیے

15 فرور 2024 کے عظم کی تعیل کرتے ہوئے، جو کہ معزز لاہورہائی کورٹ، لاہور نے دیوانی اور پخیل نمبر 2024/9649 میں پاس کیا، پید ٹوٹس ایک غیر معمولی جزل میٹنگ (EOGM) کے شیئر مولڈرز کی LSE وینچرز کمیٹنڈ ، (LSEVL) اس کے ڈریعہ منطقہ ہونے کے لئے دیاجاتا ہے۔ ہفتہ، 16 اماری، 2024، میچ 10:00 بچایل ایس ای وینچرز کمیٹنڈ کے رجسٹرڈ آفن میں، ایل ایس ای پیازہ، 19 سال میں اور علی طور پرویڈیونک کی بھولت کے ذریعے درج درج دین خصوصی کاروبار کولین دین کرنے کے لئے:

ا پیٹراآ تھ نم نمبر LSE: 1 ویٹر زلمیٹر (اوراس کے مبران) کے ساتھ شک ڈیٹیٹل کشوڈین کمپٹی لمیٹر (اوراس کے مبران) کے ساتھ سمجھوٹ کرنے واقتطات اور تغییر نوکی اسلیم ایکیٹور کورنے اورا گر مناسب سمجھا جائے قواسے اپنانہ اتفاق کرنااور منظور کرنا۔ اس نوٹس کے طور پر نمائش) I۔ بشول DCCL اور LSEVL کے مالی بیانات اوراسکیم کے لیے آؤیٹر کے SWAP تناسب کاس شکلیٹ۔)

> ا پجیٹرا آسٹم نمبر :2 کے طور پر شلک خصوصی قرار دادوں پر خور کر نااور منظور کرنا نمائش II اس قرش پر، کمی تر میم کے ساتھ یااس کے بغیر،اسکیم میں درج شر اکفا و ضوابط کے تابع۔ معوز لاہور ہائی کورٹ، لاہور کے حکم کی فٹیل میں زیر دستخطی کے ذریعے جاری کیا آگیا، جس کااویر ذکر کیا گیاہے۔

- SD - جناب احمد صن بث اید و کیت بالی کورث اید و کیت بالی کورث الله و که در مقال می الله و که در که الله و که در که الله و که در که الله که و که در که الله که و که در که در

چوپدری اذلان محبوب ایڈ و کیٹ ہائی کورٹ دفتہ نمبر 701ر70ء عند شدر لازش ک

دفتر نمبر 7،701 مل فلور، لينثمارك پلازه جيل روژ، لامور

عرى £23: قرورى 2024

اہم نوٹ:

- . میر شرانسفر کتب کی بدش : کمپنی کا صص کی منتقلی کر کتابی ای دن ہے بندر ایس گی 09۔ مارچ 2024 ہے 14 رچ 2024 کی اور نوان دن شال بیری) فیر معمولی بین ل مینگ میں شرکت کے مقصد سے اتحال میشور جسٹر الرکے دفتر میں ترتیب سے موصول ہونے والی بنتقل مینی .F.D. در جسٹر الرم و میز (پرائیویٹ) کمیٹٹر، موٹ 17 ، 17-170 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور 11 ، پھر ریگر دوؤہ کر اپنی ، کاروبار کے انتقام پرماری 100 ، 2024 ، 2024 ، 2024 کی باتے گا
 - 2. والوفور والمحتال : كينزايك 2017 (2013) 2 الله عند النصيل وخاتى يان مين كي غير معولى جزل مينك كو أس كرماته مسلك ب
- 3. ومتاویزات کامعائد: انتیم کی کابیان، کمپینزایک، 2017 کے تحت 281 کے بیان، حالیہ سالنہ/سہ ماتی اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ نہ گورو کمپنیوں کے تمام شاکع شدہ یا یعورت ویگر مطلوبہ اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ موب ریشو پالی تصیات، میمورنڈم اور آریکٹر ایس وی ایش، مطلوبہ منظور یوں اور دیگر متعلقہ معلومات/وستاویزات کامعائد افزیداری کی جاسکتی ہے کاروباری او قات کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈآ فس میں اس نوٹس کی اشاعات کی تاریخ نے کے کرایکٹر آرڈیزی میٹنگ کے اختیام تک :
 - 4. اجلای می شرکت کے لیدایات
- 2) افراد کے معالمے میں ،اکاؤنٹ ہولڈریاذ بلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ایاوہ شخص جس کی سیکیور ٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تضیاب صوابط کے مطابق آپ اوڈ کی تھی ہیں،ایٹااصل قومی شاختی کار ڈو کھا کر اپنی شاخت کی تصدیق کریں گے۔ میننگ میں شرکت کے وقت ("CNIC یا اصل یاسپورٹ۔
- 3) ملک میں COVID-19 کی صور تھال کی روشی میں ، کمپنی نے میٹنگ میں جسمانی طور پر شرکت کرنے والے ادراکین کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے ہیں۔متعلقہ SOPs پر سختی سے عمل کماجا ہے۔
 - 5. پراکی اور کار پوریٹ اتھار ٹیز کی تقرری کے لیے

	ہے، مندرجہ بالاضرورت کے مطابق پراکی فارم جع کرائے گا۔	
500 Jan 1980) پاکی فار م پر دوافر اد گواه بول کے جن کے نام، بے اور CNIC نمبر فار م پر در	2
ی کورائی فارم کے ساتھ ہیں کیاجائے گا۔	CNIC کی تصدیق شده کاییاں یافائد داشھانے والے مالکان کے پاسپورٹ اور پراکم	3
) پاکی میننگ کے وقت اپنااصل CNIC یااصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔	4
انامزد شخص کے دستھنا کے ساتھ پراکی فارم کے ساتھ کمپنی کوچھ کرایاجا کے گا (جب تک کہ پہلے قرائم نہ کیا گیا ہو) كار لوريث ادارول كى صورت شى، بورة آف دائر يكثر زكى ريزوليوش / بياور آف اثار في	5
ش / پاور آف اٹارنی جس میں نامز و شخف کے نمونے کے دستھا ہوں گے (جب تک کد پہلے فراہم ند کیا گیا ہو) چیٹ		
HILL SENIES WITH STANFORD WITH	کیاجا گا۔	
نبر 4 کے مطابق ^{دیں} ، 2021مر کار غیر 6 مور قد 3 ہارچ 2021 اور این ای می پی کی طرف سے 15 و سم	الله كا نفر نستك كى سبوات كے ليے رضامندى SECP: كے 15 فرورى كے سر كار	6. ويا
نے کے لیے دیدی کا نفرنس کی سوات کا اہتمام کیا ہے۔ دیدیو کا ففرنسٹک کے ذریعے میٹنگ بیں شرکت کرنے بیر		
EOGM" كى لير جسريين"ك موضوع كى ساتھ درست CNIC كى كاپل كى ساتھ اى مي	نہی رکھنے والے شیئر ہولڈرزے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کو	ł,
ا ماتھ شير كى جاكس كى جن كى اى ميلز، تمام مطلوبہ تفصيات ير مشتل EOGM ، كے وقت عے كم از كم 8		
	ي بيل موصول بوكى بين-	
1. 2. 2. 2. 4. 4. 700 y 80 s. 10 y 5. 10 y	ا فايونير CDC / سرمايه كاد A/c نيراذيل A/c نير	
7: 1	د شر بولدر كانام.	
the table of the castles of the state of the	3. تىل فۇن قىر	
A COMPANY OF THE PARTY OF THE P	الله الإرين 4.	
the eye was very lite were three girthur company	. 5ر کھے گئے صعبی کی تعداد	17. MA
(中华中华中国 第20年,1946年,1956年,1957年	سٹ کے ذریعے دو ٹنگ کے لیے ای دو ٹنگ اور بیلٹ پیپر	٦. ١٠
گ۔ خصوصی کاروبار خروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شر انط کے تابع۔ ارا کین کی سمولت کے ب ہے www.lse.com.pk-ڈاؤن لوڈ کے لیے۔	لے بیك بيران وفس كے ساتھ شكك باوريد ممان كى ويب سائك يہ جى دستر	(1
گ خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور ند کورہ ضوابط میں موجود شر انطے تالح۔ ارا کین کی مہوات کے	ور پیچ اپنے دوٹ کا حق استعمال کرنے یا ڈاک کے ذریعے دوٹ دیجے کی اجازت ہو لیے بیلٹ پیچراس تو ٹس کے ساتھ ضلک ہے ادریہ سمچنی کی ویب سائٹ پر بھی دستی بیلٹ پیچر زار کمین اس بات کو پیٹنی بنائیں گے کہ ضلک فارمیٹ کے مطابق سمچے ط کے رجسٹر ڈایڈریس، 19- پر ڈاک کے ذریعے میڈنگ کے ٹریک چیئر مین تک گؤ	(1
گی۔ خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور نہ کورہ ضوابط میں موجود شر انط کے تابع۔ ارا کین کی سمبولت کے . ب ہے www.lse.com.pk ۔ ڈائن لوڈ کے لیے۔ ریفتے سے ہمر ابوااور دستھ شدہ بیلے میں کے ساتھ کہیو ٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی ایک کا لی سمبی) جائے۔ خیابان ایوان اقبال لاہور یاای میل پر info@lse.com.pk ، غیر معمول جزل میشک سے ایک	ذر لیچ اپنے دوٹ کا حق استعال کرنے یاڈاک کے ذریعے دوٹ دیعے کی اجازت ہو لیے بیلٹ بیچر اس نوٹس کے ساتھ خسلک ہادر یہ سمجنی کی دیس سائٹ پر بھی دستی بیلٹ بیچر: ادا کیمین اس بات کو تیقی بنائیں گے کہ خسلک فار میٹ کے مطابق سمچ ط کے رجسٹر ڈایڈریس، 19- پر ڈاک کے ذریعے میڈنگ کے شریک چیئر ٹین تک تخفی (1)دن پہلے۔ بیلٹ جیچر پر دستخط CNIC پر دستخطوں سے مماثل ہوں گے۔	(1
گی۔ خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شر انطاعے تالع۔ اراکین کی مجولت کے ب ہے۔ ب بے www.lse.com.pk۔ ڈائون لوڈ کے لیے۔ ر یقتے ہے ہمر ابوااور دستھ شدہ بیلے ہیچ کے ساتھ کہیوٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی ایک کائی سمجھ) جائے۔ خوابان ایوان اقبال لاہوریال میں کی ماتھ کہیوٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (info@lse.com.pk مقبر معمول جزل میشگ سے ایک	ذر لیچ اپنے دوٹ کا حق استعال کرنے یاڈاک کے ذریعے دوٹ دیے کی اجازت ہو لیے بیلے چیچ اس نوٹس کے ساتھ خسلک ہادر یہ سمجنی کی دیب سائٹ پر بھی دستی بیلٹ چیچ :اراکین اس بات کو تینی بنائیں گے کہ خسلک فارمیٹ کے مطابق سمج ط کے رجسٹر ڈایڈریس ، 19- پر ڈاک کے ذریعے میڈنگ کے شریک چیئر ٹین تک تخف (1)دن پہلے۔ بیلٹ چیچ پر دستھا CNIC پر دستھالوں سے مماثل ہوں گے۔ پوسٹ /اکی ووشنگ کے	(1
گی خصوصی کار دبار ضروریات کے مطابق اور ند کورہ ضوابط میں موجود شر انط کے تابع۔ اراکین کی سموات کے ب ہے بعد محمد العدود سلامی مطابق کے لیے۔ ر یعظ ہے بحر ابوااور د سخط شدہ بیلے جینے کے ساتھ کم پیوٹر انزڈ قوی شاختی کارڈ (CNIC) کی ایک کا بی سمبیر ن جائے۔ خیابان ایوان اقبال لا بوریال سیل پر کی مطابق کی معدول جزل میشک سے ایک فرر یعے دو شک کے لیے بیلے جینے بیسیر فرر یعے دو شک کے لیے بیلے بیسیر فرر یعے دو شک کے لیے بیلے بیسیر ن معدول کا بیان ایس ای بیازہ 10 - خیابان ایوان اقبال، لا بورک آذیٹور تھی معدود کی منعقد کو	ذر لیچ اپنے دوٹ کا حق استعال کرنے یاڈاک کے ذر لیچ دوٹ دیے کی اجازت ہو لیے بیٹٹ پیچراس نوٹس کے ساتھ ضلک ہے اور یہ سمجنی کی ویب سائٹ پر مجلی دستی بیٹ پیچر: ادا کمین اس بات کو تیٹی بنائیں گے کہ شلک فاریٹ کے مطابق سمج ط کے رجسٹر ڈایڈر لیس، 19- پر ڈاک کے ذر لیچ میٹنگ کے مثر یک چیئر مین تک تؤ (1) دن پہلے بیٹ پیچر پر دستخط CNIC پر دستخطوں سے مماش ہوں گے۔ دل جزل میٹنگ بیل ایس ای دینچر زلمیٹلہ 16 مارچ 2024 پر دز ہفتہ، مسی 600	1] (2) لا فير معمد
گی خصوصی کار دبار ضروریات کے مطابق اور ند کورہ ضوابط میں موجود شر انط کے تابع۔ اراکین کی سموات کے ب ہے بعد محمد العدود سلامی مطابق کے لیے۔ ر یعظ ہے بحر ابوااور د سخط شدہ بیلے جینے کے ساتھ کم پیوٹر انزڈ قوی شاختی کارڈ (CNIC) کی ایک کا بی سمبیر ن جائے۔ خیابان ایوان اقبال لا بوریال سیل پر کی مطابق کی معدول جزل میشک سے ایک فرر یعے دو شک کے لیے بیلے جینے بیسیر فرر یعے دو شک کے لیے بیلے بیسیر فرر یعے دو شک کے لیے بیلے بیسیر ن معدول کا بیان ایس ای بیازہ 10 - خیابان ایوان اقبال، لا بورک آذیٹور تھی معدود کی منعقد کو	ذر لیے اپنے دوٹ کا حق استعال کرنے یا ڈاک کے ذر لیے دوٹ دیے کی اجازت ہو لیے بیٹ چیچ اس نوٹس کے ساتھ مشلک ہے اور یہ سمجن کی دیب سائٹ پر گئی دستی بیٹ چیچ :ارا کمین اس بات کو تیٹی بنائیں گے کہ مشلک فارمیٹ کے مطابق سمج ط کے رجسٹر ڈایڈر میں ، 19 - پر ڈاک کے ذر میع میشگ کے شریک چیئر ٹین تک گئی (1) دن پہلے بیٹ چیچ پر دستخط CNIC پر دستخطوں ہے مماش ہوں گے۔ پوسٹ /ای وو مشگ کے دل جیٹر کر المیٹلڈ 16 ماری 2024 پر دز ہفتہ مستح 60 جز را میٹلگ ہے سابل ایس ای و مشک کے حز المیٹلڈ میٹر میٹوں کے دابلے کی تف	1 (1) ل غير معمو با ئے گا۔ م
گی خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور ند کورہ ضوابط میں موجود شر انط کے تابع۔ اراکین کی سموت کے ۔ ب بے www.lse.com.pk ۔ ڈائن لوڈ کے لیے۔ ر یقے ہے ہمر ابوااور د سخط شدہ بیلے بیچ کے ساتھ کہیو ٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی ایک کا لی سمجھ کی جاتھ کے ساتھ کی ایک انداز نامین کی ایک کا لی سمجھ کی استعمال نامین کی ایک کا لی سمجھ کی ساتھ کی ایک کا ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا کی سمجھ کی مسلم کی ایک کا کی کا کی ایک کا کی ایک کا کی کا کی کا کی کا کی ایک کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کا کا کا کی کا	ذر لیے اپنے دوٹ کا حق استعال کرنے یاڈاک کے ذر لیے دوٹ دیے کی اجازت ہو لیے بیلے چیچ اس نوٹس کے ساتھ خسلک ہادر یہ کمپنی کی دیس سائٹ پر بھی دستی بیلٹ چیچ :ارا کین اس بات کو تیٹنی بنائیں گے کہ خسلک فار میٹ کے مطابق سی ط کے رجسٹر ڈایڈر میں ، 19- پر ڈاک کے ذر لیے میٹنگ کے شریک چیئر ٹین تک تیُّ (1) دن پہلے ۔ بیلٹ چیچ پر دستھا CNIC پر دستھاں سے مماثل ہوں گے۔ ولی جزل میٹنگ بیل ایس ای و سنچر زلمیٹر 16 مارچ 2024 بر دز ہند، میں 60 مزز ال مورانی کورٹ، ال موری طرف سے مقرر کر دوشر یک چیئر مینوں کے دابیط کی تند بید : شریک چیئر ٹین LSE ، و ینچر زلمیٹر کے C/O کھنی کیکرٹری	1) ل غير معمو جائے گا۔ م
گی خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور ند کورہ ضوابط میں موجود شر انط کے تابع۔ اراکین کی سموت کے ۔ ب بے www.lse.com.pk ۔ ڈائن لوڈ کے لیے۔ ر یقے ہے ہمر ابوااور د سخط شدہ بیلے بیچ کے ساتھ کہیو ٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی ایک کا لی سمجھ کی جاتھ کے ساتھ کی ایک انداز نامین کی ایک کا لی سمجھ کی استعمال نامین کی ایک کا لی سمجھ کی ساتھ کی ایک کا ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا کی سمجھ کی مسلم کی ایک کا کی کا کی ایک کا کی ایک کا کی کا کی کا کی کا کی ایک کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کا کا کا کی کا	ور پیچ اپنج دوٹ کا حق استعال کرنے یاؤاک کے ذریعے دوٹ دیعے کی اجازت ہو لیے بیک پیچراس نوٹس کے ساتھ مسلک ہے اور یہ سمجنی کی دیب سائٹ پر سمجی کی دستی یلٹ پیچرز ارائیں اس بات کو تینی بنائیں گے کہ مسلک فاریٹ کے مطابق سمج طابق سمج طابق سمج طابق سمج طابق سمج طابق سمج طابق سمج طرح دیستے کے رجسٹر ڈایڈریس، 19- پر ڈاک کے ذریعے مینٹگ کے مثر یک چیئر مین تک تو تھا (1) دن پہلے بیلٹ چیپر پر دستخط CNIC پر دستخطوں سے مماش ہوں گے۔ ولی جزل مینٹگ بیاں ایس ای دینٹر زلمیٹ 16 ماری 2024 پر دز ہفتہ، سمج 500 مرز لا مور بائی کورٹ کے مقرز کر دوشر یک چیئر مینوں کے رابطے کی تف مرز کر دوشر یک چیئر مینوں کے رابطے کی تف مرز کر دوشر یک چیئر مینوں کے رابطے کی تف مرز کر دوشر یک چیئر مینوں کے رابطے کی تف مرز کر دوشر یک چیئر مینوں کے رابطے کی تف مرز کر دوشر یک چیئر مینوں کے رابطے کی تف مرز کر دوشر یک چیئر مینوں کے رابطے کی تف مرز کر دوشر یک چیئر مینوں کے رابطے کی تف مرز کر دوشر یک چیئر مینوں کے رابطے کی تف مرز کر دوشر یک چیئر مینوں کے رابطے کی تف مرز کر دوشر یک چیئر مینوں کے رابطے کی تف مرز کر ایک کی تف کاروں کی اس کی استحال کی ان کاروں کے در کی بھرز مینوں کے رابطے کی تف کی تف کی کاروں کی کا	را (1 ال فير معم معم الله المرديدي الدويدي الدويدي الدويدي الدويدي
گی خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور ند کورہ ضوابط میں موجود شر انط کے تابع۔ اراکین کی سموت کے ۔ ب بے www.lse.com.pk ۔ ڈائن لوڈ کے لیے۔ ر یقے ہے ہمر ابوااور د سخط شدہ بیلے بیچ کے ساتھ کہیو ٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی ایک کا لی سمجھ کی جاتھ کے ساتھ کی ایک انداز نامین کی ایک کا لی سمجھ کی استعمال نامین کی ایک کا لی سمجھ کی ساتھ کی ایک کا ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا کی سمجھ کی مسلم کی ایک کا کی کا کی ایک کا کی ایک کا کی کا کی کا کی کا کی ایک کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کا کا کا کی کا	ذر لیچ اپندووٹ کا حق استعال کرنے یاڈاک کے ذر لیچ دوٹ دیے کی اجازت ہو لیے بیلے بیچر اس نوٹس کے ساتھ خسکت ہا در یہ کمپنی کی دیب سائٹ پر بھی دستی بیلٹ بیچر: ارا کین اس بات کو بیٹنی بنائیں گے کہ خسکت فار میٹ کے مطابق سیچ ط کے رجسٹر ڈایڈر میں ، 19- پر ڈاک کے ذر لیچ میٹنگ کے شریک چیئر ٹین تک تی تی اس اس کا اس کا اس کی جیئر ٹین تک تی تی اس کا اس کا کو اسٹ کرائی ہوں گے۔ (1) دن پہلے بیٹ جیئر ٹین کا حقیق را لمیٹل 16 بارج 2024 بر دز ہفتہ میں 60 میز کی تف میں اس کی تف میز را کی دو شیک کے میز را لیٹ کی تف میز را کر دو شریک بیئر شینوں کے را بھلی کی تف میز را کی دو شیک کے داریک کی تف میز را کی دو شیک بیئر شینوں کے را بھلی کی تف میز را کی دو شیک بیئر شینوں کے را بھلی کی تف میز را کی دو شیک بیئر شینوں کے را بھلی کی تف میز را کی دو شیک بیئر شین کے دا بھی ایک ان ان ان اور نامید کی تاریک کے دو تاریک کی ان کی ان کی تاریک کی دو تاریک کی	را المائير معموم معموم المائير معموم معموم المائير معموم معموم المائير والحائير وال
گی خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور ند کورہ ضوابط میں موجود شر انط کے تابع۔ اراکین کی سموت کے ۔ ب بے www.lse.com.pk ۔ ڈائن لوڈ کے لیے۔ ر یقے ہے ہمر ابوااور د سخط شدہ بیلے بیچ کے ساتھ کہیو ٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی ایک کا لی سمجھ کی جاتھ کے ساتھ کی ایک انداز نامین کی ایک کا لی سمجھ کی استعمال نامین کی ایک کا لی سمجھ کی ساتھ کی ایک کا ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا کی سمجھ کی مسلم کی ایک کا کی کا کی ایک کا کی ایک کا کی کا کی کا کی کا کی ایک کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کا کا کا کی کا	ذر لیے اپنے دوٹ کا حق استعمال کرنے یا ڈاک کے ذر لیے دوٹ دیے کی اجازت ہو لیے بیلے بیچر اس نوٹس کے ساتھ ضلک ہادر سے کمپنی کی دیس سائٹ پر مجل دستی بیلٹ بیچر :ارا کین اس بات کو تیٹی بنائیں گے کہ شلک فار میٹ کے مطابق سی ط کے دہشر ڈایڈریس ، 19- پر ڈاک کے ذر لیے میٹنگ کے شریک چیئر ٹین تک تی تی اور پہنے کے دار لیے میٹنگ کے شریک چیئر ٹین تک تی تی اور ان کی اور شک کے (1) دن پہلے بیلٹ بیچر پر دستی اراک وو شک کے ولی جنرل میٹنگ میں ایل ایس ای و ینچر زلمیٹر کا بارچ 2024 بر در ہفتہ ، سی 300 کی تف میز رک دو بر یک چیئر مینوں کے دابطے کی تف میز رک روم شریک چیئر مینوں کے دابطے کی تف میز رک دوم شریک چیئر مینوں کے دابطے کی تف میز رک چیئر ٹین کے 16 میٹر کے دیئر کی در میٹر کے دیئر کر دوم شریک چیئر مینوں کے دابطے کی تف کیئر شریک چیئر ٹین ایم ایس	را الله الله الله الله الله الله الله ال
گی خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور ند کورہ ضوابط میں موجود شر انط کے تابع۔ اراکین کی سموت کے ۔ ب بے www.lse.com.pk ۔ ڈائن لوڈ کے لیے۔ ر یقے ہے ہمر ابوااور د سخط شدہ بیلے بیچ کے ساتھ کہیو ٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی ایک کا لی سمجھ کی جاتھ کے ساتھ کی ایک انداز نامین کی ایک کا لی سمجھ کی استعمال نامین کی ایک کا لی سمجھ کی ساتھ کی ایک کا ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا کی سمجھ کی مسلم کی ایک کا کی کا کی ایک کا کی ایک کا کی کا کی کا کی کا کی ایک کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کا کا کا کی کا	ذر لیچ اپنے دوٹ کا تن استعمال کرنے یاڈاک کے ذر لیچ دوٹ دیے کی اجازت ہو لیے بیٹ بیچر اس نوٹس کے ساتھ مسلک ہادر ہے کمپنی کی دیب سائٹ پر مجاد سنے یطی بیچر : ارا کمین اس بات کو بیٹی بنائیں گے کہ مسلک فار میٹ کے مطابق سیچ طرف کے در جسٹر ڈایڈر رس ، 19- پر ڈاک کے ذر لیچ میٹنگ کے طریک جیئر شن تک تو تیک (1) دن پہلے بیٹ جیچر پر دستی (CNIC) پر دستخطوں سے مما آئی ہوں گے۔ ولی جزل میٹنگ بیل ایل ایس ای دستی زلمیٹڈ 16 مارچ 2024 پر دو بہتر ، سی 500 کی تعد مزز الا بودر بالی کورٹ ، لا بھور کی طرف سے مقر رکر دوشر یک چیئر میموں کے دابیطی کی تند مزز الا بودر بالی کورٹ ، لا بھور کی طرف سے مقر رکر دوشر یک چیئر میموں کے دابیطی کی تند ایل ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس نیٹر کر دوشر یک چیئر میموں کے دابیطی کی تند ایل ایس ایس باز دورہ 19 - خیابان ایوان اقبال ، لا بھور ایس میل پیٹر بھو لڈرز کا نام ایش دیس	11 فير معمول المان فير معمول المان فير معمول المان والكان المان والكان فير والكان وال
گی خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور ند کورہ ضوابط میں موجود شر انط کے تابع۔ اراکین کی سموت کے ۔ ب بے www.lse.com.pk ۔ ڈائن لوڈ کے لیے۔ ر یقے ہے ہمر ابوااور د سخط شدہ بیلے بیچ کے ساتھ کہیو ٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی ایک کا لی سمجھ کی جاتھ کے ساتھ کی ایک انداز نامین کی ایک کا لی سمجھ کی استعمال نامین کی ایک کا لی سمجھ کی ساتھ کی ایک کا ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا کی سمجھ کی مسلم کی ایک کا کی کا کی ایک کا کی ایک کا کی کا کی کا کی کا کی ایک کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کا کا کا کی کا	ذر لیجے اپنے دوٹ کا تن استعمال کرنے یاڈاک کے ذر لیجے دوٹ دیجے کی اجازت ہو لیے بیٹ پیچر بار انوٹس کے ساتھ ضلک ہے اور یہ سمجنی کی ویب سائٹ پر بھی دستی یطٹ پیچر بار انکین اس بات کو بیٹی بنائیں گے کہ شلک فار میٹ کے مطابق سیج طرف کے مطابق سیج طرف کے مطابق کی خطر کے دیستی سائٹ کے مثر یک چیئر میں تک تن کئی اور کے اس کے در چسٹر ڈایڈر لیس کے 10 در چکھلوں سے مما کی ہوں گے۔ ولی جزل میٹنگ بیاب ایل ایس ای وینٹی ز لمیٹنڈ 16 ماری 2024 پر وز ہفتہ میں کی انسان میں میں کے دابھے کی تند حزل ایمور پاک کورٹ ، الاہور کی طرف سے مقر رکر دو شریک چیئر میوں کے دابھے کی تند حزل ایمور پاک کورٹ ، الاہور کی طرف سے مقر رکر دو شریک چیئر میوں کے دابھے کی تند سے بیٹر کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی بیٹر میوں کے دابھے کی تند شریک چیئر میوں کے دابھے کی تند سریک چیئر میوں کے دابھے کی تند سریک چیئر میوں کے دابھے کی تند سریک چیئر میون کے دابھے کی تند داوادر فولیو نمبر کے تشیر بھولڈور کا نام	ال فير معهد ال فير معهد الروبار كا إلى الله معهد الروبار كا إلى المرواد كا ا
گی خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور ند کورہ ضوابط میں موجود شر انط کے تابع۔ اراکین کی سموت کے ۔ ب بے www.lse.com.pk ۔ ڈائن لوڈ کے لیے۔ ر یقے ہے ہمر ابوااور د سخط شدہ بیلے بیچ کے ساتھ کہیو ٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی ایک کا لی سمجھ کی جاتھ کے ساتھ کی ایک انداز نامین کی ایک کا لی سمجھ کی استعمال نامین کی ایک کا لی سمجھ کی ساتھ کی ایک کا ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا لیک کا کی ایک کا کی سمجھ کی مسلم کی ایک کا کی کا کی ایک کا کی ایک کا کی کا کی کا کی کا کی ایک کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کی کار کا کا کا کا کی کا	ذر لیچ اپنے دوٹ کا تن استعمال کرنے یاڈاک کے ذر لیچ دوٹ دیے کی اجازت ہو لیے بیٹ بیچر اس نوٹس کے ساتھ مسلک ہادر ہے کمپنی کی دیب سائٹ پر مجاد سنے یطی بیچر : ارا کمین اس بات کو بیٹی بنائیں گے کہ مسلک فار میٹ کے مطابق سیچ طرف کے در جسٹر ڈایڈر رس ، 19- پر ڈاک کے ذر لیچ میٹنگ کے طریک جیئر شن تک تو تیک (1) دن پہلے بیٹ جیچر پر دستی (CNIC) پر دستخطوں سے مما آئی ہوں گے۔ ولی جزل میٹنگ بیل ایل ایس ای دستی زلمیٹڈ 16 مارچ 2024 پر دو بہتر ، سی 500 کی تعد مزز الا بودر بالی کورٹ ، لا بھور کی طرف سے مقر رکر دوشر یک چیئر میموں کے دابیطی کی تند مزز الا بودر بالی کورٹ ، لا بھور کی طرف سے مقر رکر دوشر یک چیئر میموں کے دابیطی کی تند ایل ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس نیٹر کر دوشر یک چیئر میموں کے دابیطی کی تند ایل ایس ایس باز دورہ 19 - خیابان ایوان اقبال ، لا بھور ایس میل پیٹر بھو لڈرز کا نام ایش دیس	ال فير معهد ال فير معهد الروبار كا إلى الله معهد الروبار كا إلى المرواد كا ا
گی خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور فد کورہ خوابط علی موجود شرائط کے تابع رارا کین کی مجولت کے ب ج	ور پے اپنے دوٹ کا حق استعمال کرنے یا ڈاک کے ذریعے دوٹ دیے کی اجازت ہو لیے بیلے بھیرا س نوٹس کے ساتھ مشلک ہادر کی گئی کی دیس سائٹ پر گئی دہتے بیلے بھیر: ادا کین اس بات کو بھینی بنائیں گے کہ مشلک فار میٹ کے مطابق سچھ طابق سچھ طرف ایک کے دریعے میشک کے طریعے بھیر بین تک تو تھیں اور ان کو ن پہلے میٹ کے دریعے میشک کے طریعے بھیر بھیر میں اس کے دو مشک کے دو میٹ کے ایک وو شک کے دو میٹ	ال فير معهد معهد معهد معهد معهد معهد معهد معهد
گی خصوصی کاروبار ضروریات کے مطابق اور فد کورہ خوابط علی موجود شرائط کے تابع رارا کین کی مجولت کے ب ج	ذر لیے اپنے دوٹ کا حق استعمال کرنے یاڈاک کے ذر لیے دوٹ دیے کی اجازت ہو لیے بیلٹ چیچر : ارا کین اس نوٹ کے ساتھ خسکت ہا در یہ کیٹونی کو دیس سائٹ پر جھی دستی عیلٹ چیچر : ارا کین اس بات کو تیٹی بنائیں گے کہ خسکت فار میٹ کے مطابق سی حل طرف کے مطابق سی حل اس کے در بھیر شنگ کے شریک چیئر ٹین تک تو کیلئے (1) دن چیلے چیئر ٹین کا حقول کے در لیے میشک کے شریک چیئر ٹین تک تو کی اس کے در اپنے کے دو میشک کے شریک و دشگ کے دو این ایس ای و میٹی کے در اس میشک میں ایل اور شنگ کے دو این ایس ایل و دشگ کے دو این ایس ایل و دشتی کے دار دو شریک چیئر مینوں کے رابطے کی تف محز دل بور اپنی کورٹ ، ال بھور کی طرف سے مقر رکر دوشر کے پیئر مینوں کے رابطے کی تف مین کے دائی ہوں کے دائی کے دو ایس کے دائی ہوں کے دائی کی تف مین کی مینوں کے دائی کی تف مین کے دائی کی تف کی تف کے دو کر ایک کے دو ایس کی کورٹ کی شور کی کورٹ کی شیر جو لڈرز کانام ایل ایس ایک اربور کی کار بوریٹ ، کار بوریش اور دفاتی حکومت کے نما تعدے کی صوف میں کو تعداداور فولیو نمبر کا تبدر رکا پی شک کرنا ہے)	ال فير معمول المراد ال المراد ال المراد ال المراد ال المراد ا

1	یں/اہم قراردادوں سے	يس ابهم اس كي منظوري	عام حصص كى تعداد	PARTIE OF STREET BUREAU STREET	
1	اختلاف كرتين	ريتي-	جن کے لیے ووٹ	نوعيت اور قرار دادول كالفسيل	يريل
1	(خلاف)	قراردادي (فور)	2213	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	نبر
	37 Carties	Date of		الطيابيا - كينز،ايك، 2017 كي سيشن 279 - 283 كادفعات اورد يكرتهام قال اطلاق دفعات كم طابق، الركوكي مو،اور	1
1		200 S		معرز لا بوربان كورك الابور كي منظوري ك تالع الل الين اي وخير ز لمين كا انضام / انشام (الرانشرر سمين) ويميل كمشوذين سمين	
1		Sibne 8		لمينة (الرانسفيري كين) كساته اوران في شال دو في الفيام كا الكيم ك مطابق، جيها كم تصعى يافتكان ك سامن و كما أي	
	A MATORIA		F - 198 - 2 - 3	ے، اس کی منظوری دی جائے گا۔ بے، اس کی منظوری دی جائے گا۔	
1				ب مزید طریایا -ایل الس ای و تی ز لمیشد (اور اس سے عمران) کے ویکیٹل کشوؤین کمیٹل لمیٹد (اور اس کے عمران) کے ساتھ	2
1				ربيع تا بياي المام الذي المام المام المام المام المام المام المام الذي المام الذي المام ال	0.00
				مزید طریا میمرو کرسٹن حیدر جسمی اینز کمین، وارثر والاو تشنش کی طرف سے متعین کے گئے سوپ تاب سے زیادہ بورو کی	3
	at the course	Made o	ar year and	ریے ہیں۔ منظوری کے لیے فیلہ تھے کا تاب موثر موب تاب عے طریقہ کارے تحت جس بٹی تمان کو بٹا اجراد شال ایس الیتی انجادی	
I	RUAL DO	Charles 4	ALTONOMIST O	س تاب ك قد مشرك صفى ك تقيم (0.606، ين LSEVL ك ير 1000 صفى ك مقالج مى	
1	10000			DCCL ك 606 نام اعام حصى)، صعى كاليذجب شده التعيم (4490) فلم بون وال كمينون عن عبرايك ك	
	er ver di di Veri	PUBLISHED A		شير بولڈرز كو صفى)، اور جمو تى طورياس استيم كے تحت اضافى سكيور شير مختى (انتہام كے بعد كے مرمائے كا 20% جوك كاس	
				B پر مشتل ہے۔ ایک پن حص کی فائدہ مند الا ثمنت خاص طور پر منظور شدہ الوثیق شدہ بواور اس کے ذریعے کی جاتی ہے۔	N. M.
	A Maria			مزید طریا یا مصصی یافتظان کی منظور کاان شرائط و ضوابط کو مجی دی جاتی ہے جیسا کہ انتظام ارافضام کی مسود واستکیم ش بیان کیا گیا ہے،	4
				جى شادوىرى باتون كى ماتھەددى ذىلى شال قال:	Morror I
		AN ANY		a كه تمام الله في اورواجات بشول التم فيكس اور ثرا تسفور مميني (LSE Ventures Limited) كاد مكر تمام قالوني	
	الإيمالية المالية		07-0-1	وْمدواريان الفر كمين يتن ويحيش كنووي كين لمين (جيماكد اسكيم ك شيرول 1 شي بيان كياكيا) وخفل كياجات كاز)	4
		Stationary .	In Flame	b. كد انشام /انشام كى اسليم مؤثر تاريخ ، اسكيم كى دفعات، جبال مك ان كا تعلق شرانسفر رسمين كے كاروباد اور الشراميكيات	4
		314-100		(زبانس) كى متقل اورانغام ب ب (جيداك شيرول - 1 مشيرول مين يمان كياكياب) - 3 اوراسكيم كاشيرول- 6) فرانسفر	
I		distant) and		کیتی میں لا کو ہو گااور منظوری کی تاریخ یالے دوسری تاریخ ہے عمل ش آئے گاجس کی لاہور ہائی کورٹ، لاہور منظوری دے	-
				05	
	Take No.	BACKET !	KCARA Y	c كر رانفر كين (يني LSE و في زلين) ك تام مادين الركوني بين الرمادي في فوراً يل كالدي وجرب الكيم	
	Pour E	Xa2		ك آخر كار افذ دو التني مؤثر من فرانغ مجنى كمان بن جائل كر الين و يجيل كمود ي كين ليند (جيهاك الميم ك	ENIL.
	1 % P-1	100-5	F-1-12	شینے ول - 4 ش بیان کیا گیا ہے)الی تاری کو سروس ش کسی وقتے یاد کاوٹ کے بغیر اور ند کورو تاریخ پر متعلقہ ٹر انسفرر کھنی	
				یں رہے والوں سے کم ماڑ گارشہ ونے کی شرائعاہی:	
1			通過	LSE Ventures Limited (LSEVL) کالک (PSX) کیا کی داد اداد کالی الکالی کالی کالی کالی کالی کالی کا	
		CHT IN		کی حیثیت اور سینزل فیاز ری کمینی آف یاکتان لمینز (CDC) کے ساتھ المیت کی حیثیت (LSEVL) کے ساتھ	
				ساتھ ٹرانسفر کینی کے تنام مراعات، حقق اور واجبات PSX ۔ اور CDC کے ساتھ و تعیش کسٹووین سیخ المیند (جیسا	
1				كدائليم يل بيان كياكيا ب)ك نام ي نقل كياجا كالد	
			4, 3, 31, 31	e مزید برآل، ال استیم ع تحت جاری کرد داخشافی سکیور شیز، لینی کلاس - B قابل طافی تصص اور ڈی ی می ایل کے دا محی اور	
				بدلنے والے سکوک کو بھی تکیم کے منظوری آر ڈرکی مصدقہ کائی جج کروانے دوراس کے حوالے سے ضرور کی رس کی کار دوائیول	
	TOWN COMMON TOWN	The role of	ALC: UNIVERSITY OF	ے مشروط فیرست میں رکھا جائے گا۔ فی ایس ایکس علی الن سکیورٹیز کی فیرست۔	
1			a distant	مزيد في بالك LSE ويتي زلييند اور ويحيل كمووي كلين ليندك بورة آف دار يكرز كويه مظورى دى جائ كااوردى كى ب	5
1	DATE SE 1		art to the same	کہ دوسوب ریشو، ڈسٹری بوشن ریشواور ایاموڑ سوپ ریشوشل سے کی ایک میں زمیم کرے، جیساکہ معاملہ ہو، اگر عزت مآب کی	Letter /
		(186%) A		طرف مشوره ياجائ يادايت كاجائ المورباني كورث والممورف LSE وينجر دلمين عشر موالدرز كود يجيش كشودي	
-	A PROPERTY OF		5	ممنی لینیڈ کے مشتر کہ شیئر زاور اضافی سکیور شیز کے اجراء کے لیے۔	
			A THE RESERVE	مزيد طي بال فم شدوادار كم مقتل كاروباركوايد جست كرنے كي بينى ,750، جوزه تديليان، جياك ميورندم	6
	13-45 Page 1	WELLE .		اور آر فیکل آف ایسوی ایش می اسلیم کے شیرول- 9 کے ساتھ شلک بے 750 مواور اس کے دریعہ خاص طور پراور انفرادی طور	
-		The real day of the	di li andi	المالية	
	A CARLON OF THE SECOND OF THE	un data	AR AL	مزید لمے پایا منظوری دی جائے گیاوراس کے ذریعے اضافی سکیور شیز کے اجراء کے لیے اسلیم کے آرٹیکل-6 میں بیان کردہ شرائط	7
			garage 9	ضوابط کے مطابق دی جائے گیاوران کے اجراء کے لیے جمعس یافتظان سے مزید مطور کی ضرورت فیل ہے۔	

8	مزيد طه پايا - كينزايك، 2017 كي سيشن (83(1)(b) كي تحت كاند طور يه منظوري دى جائ كي 32,222,795	70 70 70	1000000	
	و بحیثل کشووین مین المیشا مستقل اور بدالے والا سکوک کو 32,222,795 مام من تبدیل کرناؤ بحیثل کشووی کمین المیشارے		Kisking	
4	الصم ومتحرك كرف والح واقعات يوجيهاكد الميم على موجا كياب			ALC: N
9	مزید طہ پایا ۔ مزید کی شاف رجمر یفن کی متقوری کے لیے متقوری دی جائے گی اور اس کے ڈریعے دی جاتی ہے۔ دوپ		9	
	500,000,000 كو 500,000,000 و جيش من تقيم كيا كياكموزي كمين لميند -روي كامتقل اوريد لن والاسكوك			
	10/- ہرایک جوموجودہ شیر مولارز کو او نس یاحق کے طور پر جاری کیا جاسکتا ہے۔			
10	مزيد طه بال كينزاكك، 2017 كيش (6)(1) 83 ك تحت ال كا مكنة تهريل ك في منظوري دي في بمزيد	PORT.	A COLUMN	L RUBATUS
	50,000,000 و بھیل سنووی سی لمیند بودی کل اور کور میل سکوک (جیماک شیف رجسزیش کے تحت رکھا کیا ہے)	William Control		
	كمين ك 50,000,000 مام تصفى مين واقعات كو مقرك كرنے يه اسكيم مين قور كياكيا		SESTEMATION OF THE PERSON OF T	
11	مزيدط پايا مراسفري كيني كار جسر يشن الائسسنگ بي كى حسم كان فيرياعدم منظوري جيد كداسكيم عن بيان كرده افعال كوانجام	Suasbal		
	دیے کے لیے مرکزی ڈپازٹری کے طور یکام کرنا؛ فوری اسلیم کے مطابق کمیٹوں کا انتخام متاثر فیس او گا کونک ای طرح دونوں	表现是为	Cartilla State	
	كمپنيول ك شيئر بولذرز كے ليے فائد ومند سمجها جاتا ہے۔		THE RES	A STATE OF
12	مزيد طه يايا - كينيز ايك ، 2017 كي كيشن 279 ع 283 اور ديكر قابل اطان وفعات كے مطابق، خروري مشترك المليحده	4 4 4		
	درخوات (درخواسین)، پنیشن(ز)ادر چیف ایگزیکنو آفیریاد بھیٹل کسؤوین کے کمپنی سکرٹری کے ذریعہ منتقل کیاجاسکا ہے۔ سمپنی			
	لميند صفى يافتكان اور قرض وبندگان كى كى بحى مينك (اگركونى ب) كى بلانے ، انعقاد اور انعقاد ياس كى تقيم، جيماك معامله بو،			
	اك كيدايات حاصل كرنے كي معزز لاجور بانى كورث، لاجور كرمائ كيلي جيئر من كي تقرري، توشر كا جراءاور بيجينا	ATT A		
	اوراشتهارات کی جگہ کا تقین اور دیگر بدایات کے حصول کے لیے جیساکد معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور متاسب اور متاسب سمجے اور		1985	
	مجوزها نضام الفنام اور جوزه سيم كى منظورى حاصل كرنے كے ليدانضام الفنام كا	200		
13	مزيد طريا في عينل كنووي كين الميند اورايايل الى اى وينحير زلميندك جيف ايزيكويا كيني سكرزي (جيهاك معالمه بو)،		MACLE	
	خرور كادر خواستول، در خواستول، همى در خواستول، درخواستول، ممن در متخط كرن، جع كران يايش كرنے كے اليا ملوري	NO WAY	JANUA .	
	مجازيل، اعال، دستاويزات، آلات، جوابات، جوابات، اورحلف نام كاحلف المحاتاياند كوره بالاالفهام /الفهام كي يانذزكو جاز حكام	A. The		
	بشول معزز لا ورباني كورك الا وروسكيور ميزايد اليهج يحميض آف باكستان اوران تك محدود نبيل مسابقي كميش آف باكستان			
1	مزيد لحبايا ويجيش كمنودي كمخ الميشرك ويف المريكية وقيريا كمخ سكرزى اكيا طور جازي ادراتين كمخ ك شير بولارة	- Carlifornia	Delining.	F. C. MON.
	(مینی متعلقہ کمپنی اکار پورٹ انڈر کینگ) کی طرف سے منظور کردو قرار دادوں کی مصدقہ کا بیال معزد لا بورہائی کو جع کرانے کا اختیار		CHARLE	
	ب- عدالت الاہور، جسٹرار آف کمینیز، سکیورٹیزائیڈائیجینی کمیشن آف پاکشان، پاکشان اسٹاک ایکینی کمینیڈاور اس طرح کے دیگر	The State of	10 BA	
120	عاد القار شين اكر ضرودت وو	The state of the s		
1	مزيدط بإيا - يجيل سنودي كين لميند كر چيف يكريدو فيروي علين مكر رى اكميط طورير وازي اورين:		Carrie	
	a) خرور كادار خواستول بينيشنز، عمني درخواستول أورخواستول، عمن، دُيدُرْ، وستاديزات، السرّر ومنش، جوابات، جوابات، اور	The Sales	The state of	
	طف نامدر و سخط كرنے يا يثين كرنے كے ليے يات كوره بالا اضام الفعام كے ليے بائدز با عمل ور آيد ؛		LONG TO STATE OF	
1	b) معزز الادر بانی کورٹ الامور کے مامنے دو خواست اور پٹیش دائر کرنے کے لیے کی چی دکیل اوکیل امثیر امثیر کو شامل	TV CHEST	1 2 181 2	
1	كرناداود يكر مترورى كام كرتے كيا يا	100 pull	and tooling	SPAN A
	c معزد لاہور ہائی کورٹ، لاہور کے سامنے [وَاتَى طور پر یا نم اُحدول کے وَر مِنع ﷺ بیٹی ہوناہ کمپنیوں کے رجسٹر ارکے دفاتر؛		基础表	
	سكية ريزايندائيسين كيش آف باكتان الإكتان استاك اليمين لميشر اوراياذ كوره بالله انضام / انضام كرسليط عن كسي دو مر	The second of the second of the	all the his	
1	القار في الحق كربائ اور	The Salar A	10,454.034	
-	d) كونى دور اعمل، عمل ياكام جوند كوره بالامعالى متعلقة يادا قعالى بعويجوند كورومقاصدك ليدر كاربو	45. 28.		

	**************************************	X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	شيئر بولدرزك ومتخط
THE SHEET	THE STATE OF THE S		A STATE OF THE STA

- مكمل شده إو شل بيك چيز من كوند كوره إو شل يااى ميل ايدريس، ميجاجات-.1
 - يوشل يك قارم ك ما تد CNIC كى كالى شك بونى يا ي .2
- ي على والمن المراكب ال .3 ب على يك يرد عظ CNIC يرد عظا ما أل بونا باب

 - 5. نامكل، فيرد عظ شده، فلط، كشده، بيناموا، كشده، زياده لكعاموايك عير مسرد كرد ياجائكا-
- 6. کمپنی بیلے بیچ کا مووہ تارکرے گی جس میں واضح مطوبات، شرائط و ضوابط اور انتخاب کا انتخاب فراہم کیا جائے گاور اس بات کو شیخی بیائے گاکہ دوٹرزے لیے کو کیا المجس پیداند ہو جس سے دو نگگ کے مقصد کو فقسان پنجے۔

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LSE VENTURES LIMITED FOR APPROVAL OF SCHEME OF COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND RECONSTRUCTION

In compliance with the order dated February 15, 2024, passed by the Honorable Lahore High Court, Lahore in Civil Original No. 9649/2024, this NOTICE for the convening of an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of LSE Ventures Limited (LSEVL), is hereby given to be held on Saturday, March 16, 2024, at 10:00 A.M, at the registered office of the LSE Ventures Limited, in the Auditorium at LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore, and virtually through a video link facility to transact the following special business:

Agenda Item No. 1: To consider and if deemed fit, adopt, agree and approve the Scheme of Compromises, Arrangements and Reconstruction ('the Scheme') of LSE Ventures Limited (& its members) with and into Digital Custodian Company Limited (& its Members), attached to this notice as **Exhibit-1** (including Financial Statements of DCCL and LSEVL and Auditor's SWAP Ratio Certificate for the Scheme).

Agenda Item No 2: To consider and to pass the Special Resolutions attached as Exhibit-II to this notice, with or without any modification, subject to the terms and conditions entailed in the Scheme. Issued by the undersigned in compliance to the Order of the Honorable Lahore High Court, Lahore, mentioned

- SD .

Mr. Ahmad Hassan Butt Advocate High Court

1st Floor, Naveena Tower, 35-C Gulberg III, Lahore

Date: February 23, 2024

SD

Chaudhary Azlan Mehboob

Advocate High Court Office No. 701, 7th Floor, Land Mark Plaza, Jail Road, Lahore

IMPORTANT NOTES:

1. Closure of Share transfer Books: The share transfer Books of the Company shall remain closed from March 09, 2024 to March 16, 2024 (both days inclusive) for the purpose of attending Extraordinary General Meeting. Transfers received in order at the office of our Share Registrar, i.e., F.D. Registrar Services (Private) Limited, Suit 1705-A, 17th Floor, Saima Trade Tower, I.I. Chundrigar Road, Karachi, at the close of business on March 08, 2024, will be considered in time to attend the EOGM.

Statutory Explanatory Statement: The detailed explanatory Statement u/s 281(1)(a)/134(3) of the Companies Act, 2017, is attached hereto with the Notice of the Extraordinary General Meeting of the Company.

3. Inspection of Documents: Copies of the Scheme, statement u/s 281 of the Companies Act, 2017, recent annual/quarterly accounts along with all published or otherwise required accounts of all previous periods of the above referred companies along with financial details on swap ratio, Memorandum and Articles of Association, requisite approvals and any other related information/documents may also be inspected/ procured during the business hours on any working day at Registered Office of the Company from the date of publication of this Notice till the conclusion of the Extra-Ordinary General Meeting.

4. Instructions for Attending the Meeting

- 1) All members entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote for him / her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. The CDC Accounts Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan. Proxy form is attached with this notice and also available at Company's website i.e., www.lse.com.pk.
- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the Regulations, shall authenticate their Identity by showing his/ her original National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting. Ainch see 18.00 to 300 Jan
- 3) In the light of COVID-19 situation in the Country, the Company has made the arrangement for the safety of the members attending the meeting physically. The relevant SOPs should be followed strictly.

5. For Appointing Proxies and Corporate Authorizations

- 1) In case of individuals, the account holder or sub-account holder is and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the
- 2) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be
- 3) Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- 5) In case of corporate entities, board of directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of

	4) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport				
	5) In case of corporate entities, board of directors' resolution/ power	er of attorney	with specimen	n signature of	
	the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along wi	ith the proxy	form to Compa	any.	
	6) In case of corporate entity, Board of Directors' resolution/ power	r of attorney	with specimer	n signature of	To l
	the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time				
	Consent for Video Conferencing facility: Pursuant to SECP's Circular				
	No. 6 dated March 3, 2021 and clarification issued by SECP dated	December 1	.5, 2021, the	Company has	188
	arranged video conference facility to ensure the participation	of members	in the gene	eral meeting.	
	Shareholders interested in attending the meeting through video co	onferencing a	are requested	to email the	
	following information with the subject "Registration for EOGM	" along wit	h copy of v	alid CNIC at	100
	info@lse.com.pk. Video link and login credentials will be shared w	ith only thos	se members w	vhose emails,	
-	containing all the required particulars, are received at least 48 hours b	efore the tim	ne of EOGM.		
	1. Folio No. / CDC Investors A/c No./ Sub-A/c No.:		to hear an	THE SELECT	
	2. Name of Shareholder:			STERROR LEED	
	3. Cell Phone Number:			ST THE ST OF THE	
	4. Email Address:		THE YEAR	Added to said at	
	5. No. of Shares held:		Territor	ger turia ad la	
7.	E-Voting & Ballot Paper for Voting through Post			ent of perlant.	
	1) E-Voting: The members are hereby notified that pursuant to Sect	ion 143-145	of the Compan	ies Act. 2017	
	and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Members will b	e allowed to	exercise their	right to vote	200
	through the electronic voting facility or voting by post for the s	special busin	ess in accorda	nce with the	HE
	requirements and subject to the conditions contained in the afo	resaid Regula	ations. For the	convenience	de
	of the Members, the ballot paper is annexed to this notice a	and the sam	e is also avai	ilable on the	100
	Company's website at www.lse.com.pk for download.		diso avai	The site was	
	2) Ballot Paper: The members shall ensure that duly filled and sign	ned ballot na	per as per att	ached format	28
	along with a copy of the Computerized National Identity Card (CN	IIC) should re	ach the Co-Ch	airmen of the	
	meeting through post on the Company's registered address, 1	9-Khayahan	a-Aiwan a lah	al tabore or	
	email at info@lse.com.pk, one (1) day before the Extraordinary	General Mon	ting The sign	atures on the	
	ballot paper shall match the signatures on CNIC.	Ceneral Iviee	dilg. The signa	atures on the	
198					
	BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH I		OTING	and the second	
20.00					
At t	he Extra-Ordinary General Meeting of LSE VENTURES LIMITED to be	e held on Sat	turday, March	16, 2024, at	7
10:0	00 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium	of LSE Plaza	a, 19-Khayaba	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba	00 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor	of LSE Plaza	a, 19-Khayaba	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba	the Extra-Ordinary General Meeting of LSE VENTURES LIMITED to be a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent:	of LSE Plaza	a, 19-Khayaba	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba the	00 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent:	of LSE Plaza rable Lahore I	a, 19-Khayaba High Court, Lah	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba the	00 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS	of LSE Plaza rable Lahore I SE Ventures Li	a, 19-Khayaba High Court, Lah	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba the o Busi	00 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent:	of LSE Plaza rable Lahore I SE Ventures Li	a, 19-Khayaba High Court, Lah	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba the d Busi Desi	20 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore	of LSE Plaza rable Lahore I SE Ventures Li	a, 19-Khayaba High Court, Lah	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba the o Busi Desi	20 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk	of LSE Plaza rable Lahore I SE Ventures Li	a, 19-Khayaba High Court, Lah	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba the d Busi Desi Na	on a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders	of LSE Plaza rable Lahore I SE Ventures Li	a, 19-Khayaba High Court, Lah	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba the d Busi Desi Na Reg Nu	20 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number	of LSE Plaza rable Lahore I SE Ventures Li	a, 19-Khayaba High Court, Lah	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba the d Busi Desi Na Rep Nu CN	200 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached)	of LSE Plaza rable Lahore I SE Ventures Li	a, 19-Khayaba High Court, Lah	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba the d Busi Desi Na Reg Nu CN	200 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of	of LSE Plaza rable Lahore I SE Ventures Li	a, 19-Khayaba High Court, Lah	n-e-Aiwan-e-	
10:0 Iqba the o Busi Desi Na Reg Nu CN Ado	200 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.)	n of LSE Plaza rable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan	a, 19-Khayaba High Court, Lah Imited	n-e-Alwan-e- nore at which	
10:0 Iqba the d Busi Desi Na Reg Nu CN Add bod	20 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) The hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution	n of LSE Plaza rable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited	n-e-Aiwan-e- nore at which	
10:00 lqba the constraint of t	20 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mark	n of LSE Plaza rable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited	n-e-Aiwan-e- nore at which	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
10:00 lqba the constraint of t	20 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) The hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution	of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited	n-e-Aiwan-e- nore at which	
10:00 lqba the constraint of t	20 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mark	of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the appro	a, 19-Khayaba High Court, Lah Imited ostal ballot by opriate box bel	re-Alwan-e- nore at which	
10:00 lqba the constraint of t	20 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) marriappropriate)	of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan as through po k in the appro	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited	n-e-Aiwan-e- nore at which	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10:00 lqba the constraint of t	20 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) the hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) markappropriate)	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the appro No. of ordinary shares for	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by priate box bel	n-e-Alwan-e- nore at which conveying low (delete	
Desi Na Reg Nu CN Add boo I/w my, as a	20 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) the hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) markappropriate)	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the	conveying low (delete	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
In the control of the	200 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) the hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (v) markappropriate) Nature and Description of resolutions	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the appro No. of ordinary shares for	a, 19-Khayaba High Court, Lah Imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions	conveying ow (delete	
Desi Na Reg Nu CN Add boo I/w my, as a	20 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@ise.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) the hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mariappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah Imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions	conveying ow (delete	が、ないのでは、ないのでは、ないのでは、は、ないのでは、は、ないのでは、は、ないのでは、は、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないの
In the control of the	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mariappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete	
In the control of the	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mariappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah Imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions	conveying ow (delete	
In the control of the	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) markappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the merger/amalgamation of LSE Ventures Limited ('Transferor Company')	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete	
In the control of the	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium II, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: Iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address Info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address IC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) We hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mariappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the merger/amalgamation of LSE Ventures Limited ('Transferor Company') with and into Digital Custodian Company Limited ('Transferoe Company')	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete	
In the control of the	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium II, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: Iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk Ine of shareholder/joint Shareholders In gistered Address In the Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk In company in the company i	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete	
In the control of the	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium II, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (v) markappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the merger/amalgamation of LSE Ventures Limited ('Transferor Company') with and into Digital Custodian Company Limited ('Transferoe Company') as per the Scheme of Amalgamation/Merger, as placed before the shareholders, be and are hereby approved.	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete	A CONTROL OF THE CONT
Desi Na Reg Nu CN Add boo I/w my, as a	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium II, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mariappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the merger/amalgamation of LSE Ventures Limited ('Transferor Company') with and into Digital Custodian Company Limited ('Transferor Company') as per the Scheme of Amalgamation/Merger, as placed before the shareholders, be and are hereby approved. RESOLVED FURTHER THAT the Scheme of merger/amalgamation of LSE	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by priate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete	1 日本の 1 日本
Desi Na Reg Nu CN Add boo I/w my, as a	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium II, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (v) markappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the merger/amalgamation of LSE Ventures Limited ('Transferor Company') with and into Digital Custodian Company Limited ('Transferoe Company') as per the Scheme of Amalgamation/Merger, as placed before the shareholders, be and are hereby approved.	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete	1
Desi Na Reg Nu CN Add boo I/w my, as a	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mariappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the merger/amalgamation of LSE Ventures Limited ('Transferor Company') with and into Digital Custodian Company Limited (Ri its Members) with and into Digital Custodian Company Limited (Ri its Members) with and into Digital Custodian Company Limited (Ri its Members), be and is hereby specifically approved.	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by priate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete	The state of the s
Desi Na Reg Nu CN Add boo I/w my, as a	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium II, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: Iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LSE LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LSE LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LSE Ventures ting teach info LSE Ventures to Info LSE Ventures Limited (Transferor Company) as per the Scheme of Amalgamation/Merger, as placed before the shareholders, be and are hereby approved. RESOLVED FURTHER THAT the Scheme of merger/amalgamation of LSE Ventures Limited (& its Members), be and is hereby specifically approved. RESOLVED FURTHER THAT over and above the swap ratio, having been	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan ns through po k in the approx No. of ordinary shares for which	a, 19-Khayaba High Court, Lah Imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete	
10:00 lqba the c Busi Na Reg Nu CN Add boo I/w my, as a Sr. No.	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium al, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk me of shareholder/joint Shareholders gistered Address imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mariappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the merger/amalgamation of LSE Ventures Limited ('Transferor Company') with and into Digital Custodian Company Limited (Ri its Members) with and into Digital Custodian Company Limited (Ri its Members) with and into Digital Custodian Company Limited (Ri its Members), be and is hereby specifically approved.	n of LSE Plazarable Lahore in SE Ventures Lie - Pakistan en Pakist	a, 19-Khayaba High Court, Lah Imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
10:00 lqba the c Busi Na Reg Nu CN Add boo I/w my, as a Sr. No.	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium II, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: Iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk Ime of shareholder/joint Shareholders gistered Address Imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) Ine hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mariappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the merger/amalgamation of LSE Ventures Limited (Transferor Company') with and into Digital Custodian Company Limited (Transferee Company') as per the Scheme of Amalgamation/Merger, as placed before the shareholders, be and are hereby approved. RESOLVED FURTHER THAT the Scheme of merger/amalgamation of LSE Ventures Limited (& its Members) with and into Digital Custodian Company Limited (& its Members), be and is hereby specifically approved. RESOLVED FURTHER THAT over and above the swap ratio, having been determined by M/s Kreston Hyder Bhimji & Co., Chartered Accountants, the decision of the Board for the approval of the distribution ratio under	n of LSE Plazarable Lahore in SE Ventures Lie - Pakistan en Pakist	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)	,
10:00 lqba the c Busi Na Reg Nu CN Add boo I/w my, as a Sr. No.	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium II, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: Iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk Ime of shareholder/joint Shareholders Igistered Address Imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) Ine hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mariappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the merger/amalgamation of LSE Ventures Limited ('Transferer Company') with and into Digital Custodian Company Limited ('Transferee Company') as per the Scheme of Amalgamation/Merger, as placed before the shareholders, be and are hereby approved. RESOLVED FURTHER THAT the Scheme of merger/amalgamation of LSE Ventures Limited (& its Members) with and into Digital Custodian Company Limited (& its Members) be and is hereby specifically approved. RESOLVED FURTHER THAT over and above the swap ratio, having been determined by M/s Kreston Hyder Bhimji & Co., Chartered Accountants, the decision of the Board for the approval of the distribution ratio under the method of effective swap ratio involving three equity components —	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan Ins through po k in the approx No. of ordinary shares for which votes cast	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by opriate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)	では、
10:00 lqba the c Busi Na Reg Nu CN Add boo I/w my, as a Sr. No.	a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium II, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honor duly filled in ballot paper may be sent: Iness Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LS LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore ignated email address: info@lse.com.pk Ime of shareholder/joint Shareholders gistered Address Imber of shares held and folio number IIC Number (copy to be attached) ditional Information and enclosures (In case of representative of dy corporate, corporation and Federal Government.) Ine hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution /our assent or dissent to the following resolution by placing tick (V) mariappropriate) Nature and Description of resolutions "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the merger/amalgamation of LSE Ventures Limited (Transferor Company') with and into Digital Custodian Company Limited (Transferee Company') as per the Scheme of Amalgamation/Merger, as placed before the shareholders, be and are hereby approved. RESOLVED FURTHER THAT the Scheme of merger/amalgamation of LSE Ventures Limited (& its Members) with and into Digital Custodian Company Limited (& its Members), be and is hereby specifically approved. RESOLVED FURTHER THAT over and above the swap ratio, having been determined by M/s Kreston Hyder Bhimji & Co., Chartered Accountants, the decision of the Board for the approval of the distribution ratio under	n of LSE Plazarable Lahore I SE Ventures Li e - Pakistan Ins through po k in the approx No. of ordinary shares for which votes cast	a, 19-Khayaba High Court, Lah imited ostal ballot by priate box bel I/We assent to the Resolutions (FOR)	conveying ow (delete I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

proxy form.

	LSEVL), adjusted shares allocation (of 490 shares to the shareholders of	ANTE PAR MAN	applied out of	Mark artenie
	each of the merging companies), and additional securities allocation (of	depended.	History of	- PAROSISSA
	20% of the post-merger capital of the merging companies comprising of	Harry Constitution	apvenedbace	Malight St.
	Class B - Redeemable Shares and Perpetual & Convertible Sukuks),	D SH DEED O	u payneay nu	CALLER MANA
	under this Scheme for the overall beneficial allotment of equity shares	A STATE OF THE	位。2013年10日	1408034 9746
	be and is hereby specifically approved/ratified.	4000年11月1日日本	BEAUTION IN THE	Bibsels Day Lin
	a. RESOLVED FURTHER THAT the approval of the shareholders be and	TOTAL PRINCIPAL	CHARLEST COLUMN	以 是人们来已,直见了
	is hereby also granted to the terms and conditions as set out in the	第3章等是一个企业企		Spider Street
	draft Scheme of Amalgamation/Merger, which includes, inter-alia,	中国经历办公司	A STATUTE OF THE	of an hermanic
	the following: "AND DEB THE PROPERTY OF SHEW ON THE	the states of	of the second	国际 2019年
	b. That all asset and liabilities including Income Tax and all other	Signa Sales	Designation of	D ALIBERTA TOTAL
	statutory liabilities of the Transferor Company (LSE Ventures	ablive lange	and st. 网络特	r Mayentlan
	Limited) will be transferred to and shall vest in the Transferee	PR PONTERN	inality one	de generaliti
	Company, i.e., Digital Custodian Company Limited (as described in	ed-oranishm	White the same	Hedispelnid
1	Schedule - 1 of the Scheme);	a satisfative u	D-MARKET	the disvilet
	c. That the Scheme of Amalgamation/Merger shall be effective from	denius, sei	in meal us	a self-professor
	Effective Date, the provisions of the Scheme, so far as they relate to	spunded was	addy house	ore allements
	transfer and vesting of the business and undertaking(s) of the	con limit moi	PHILIPPINE THE	ala formeissa
	Transferor Company (as described in Schedule - 1, Schedule - 3 and	Library Sm	of feel surface	CHARLEST CONTRACTOR
	Schedule - 6 of the Scheme) into the Transferee Company, shall be	The state of		2 with the bear
	applicable and come into operation from the Sanction Date or such	it my Heaven	ed bythma m	to dada on
	other date as the Honorable Lahore High Court, Lahore may	Delamente	month non	nimelway h
	approve;	desil antin	Constaliation	spela from Labora
	d. That all the employees of the Transferor Company (i.e. LSE Ventures	A STATE BOOM	The Storm	CONTRACTOR STATE
	Limited), if any, in service on the date immediately preceding the		THE PERSON NAMED IN	HUNDYSKAR
	date on which Scheme finally takes effect, i.e., the Effective Date,	alord et a	Total Property	A Section to produce
	shall become the employees of the Transferee Company, i.e., Digital	Constant of the	The state of the s	in the second second
In	Custodian Company Limited (as described in Schedule - 4 of the	CONTRACTOR OF STREET	STATE OF THE PARTY	DEMESO SES
	Scheme) on such date without any break or interruption in service			LITHER STATE OF
	and upon terms and conditions not less favorable than those		中心理學學	
H	subsisting in the concerned Transferor Company on the said date;	CO OF SQUARE		建 (125)和12000000
	e. That the listing status of the LSE Ventures Limited (LSEVL) with the	TI MUSIC SHEET	A PERSONAL ST	D 30 adamas
	Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) and eligibility status (of	Total agent	Augus Born and	2018年18月
	LSEVL) with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC)	Supplied B	在在表现的模型	aries agains
		些分级 400年	电影图象 电 解	sekindradi d
	along with all privileges, rights and liabilities of the Transferor	ROMANN SO	La base or kinds	decourts in
	Company with PSX and CDC shall be transferred in the name of	The Figure 1		Company Delete
	Digital Custodian Company Limited (as described in the Scheme).	hgastyrs all	Lock en ant	Horse ages
-	f. Furthermore, the additional securities issued under this Scheme,	real to bear	a saya dada a	du setambasan
	i.e., Class B - Redeemable Shares and Perpetual and Convertible Sukuks of DCCL shall also stand listed subject to the submission of	Marger a ba	that shiveel	lando Mil
99	the certified copy of the sanction Order of the Scheme and	II reside	SHIP YES	de bus fin
111		or Peep A frost	Adjusted M.	memi la lita
3	necessary requisite formalities with regards to listing of these securities to PSX.	in hall remai	weight as	off grafine
-			 	
	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby given to the Board	WT THE SECTION	to relational	Thomas a street w
1	of Directors of LSE Ventures Limited and Digital Custodian Company	CONTROL VALUE	Con adaptor	Total Service of the
1	Limited to amend any of the Swap ratio, Distribution ratio and/or	phinakeign	Fodior Isua	DIEVENSIU AL
1	Effective Swap ratio, as the case may be, if advised or directed by the	most sub-co	of Physics Blo	disputation and the
1	Honorable Lahore High Court, Lahore, for the issuance of common	ount le se	introduction and	Sulzirztynie
	shares and additional securities of Digital Custodian Company Limited to	to to found in	Tan VEUNE	readouter out
-	the shareholders of the LSE Ventures Limited.			
	RESOLVED FURTHER THAT in order to accommodate the future business	sing relation/Di	San Springer	Total Control
1	of the merged entity, i.e., DCCL, the proposed changes, as attached with			
1	Schedule - 9 of the Scheme in the Memorandum and Articles of			
1	Association of DCCL, be and are hereby specifically and individually		1000	THE PARTY
1	resolved to be adopted.	Wing.		AND SERVICE
1	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby accorded to the	118 -	A CALLERY	N # # 48
0	terms and conditions as deliberated in the Article-6 of the Scheme for	11 16	1400	AAAAA
1	issuance of additional securities and no further approval is required from	SECRETARIAN SE		The second
1	the shareholders for their issuance.			
T	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby accorded under		Translation 1	190 301 21 21 21
	Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017, for the possible conversion			
	of 32,222,795 Digital Custodian Company Limited - Perpetual and			K. MELES
	Convertible Sukuk into 32,222,795 ordinary shares of Digital Custodian			
200	Company Limited on triggering events as deliberated in the Scheme.			10-37-4-1
1	RESOLVED FURTHER THAT the approval be and is hereby accorded to			
	approve the shelf registration of further Rs. 500,000,000 divided into		L. Carlo	
1	50,000,000 Digital Custodian Company Limited – Perpetual and	Lance		
	Convertible Sukuk of Rs. 10/- each that can be issued to the existing	100100	14 15 15 15	
1	charabaldess on a basis and la			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
-	shareholders as a bonus or right. RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby accorded under	7	allow management	

So,000,000 Digital Custodian Company Limited - respectual and	_	_	
Convertible Sukuk of Rs. 10/- each that can be issued to the existing	1-1000	Self A Sec.	13.2%
shareholders as a bonus or right.			ASSES.
RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby accorded under	Kabish	BEAUTIE OF	100000
Section 83(1)(b) of the Companies Act. 2017 for the possible conversion	12 T. V. V. V. C. V. V. C. V. C. V. C. V. C. V. C. V. C. V.		
of further 50,000,000 Digital Custodian Company Limited - Pernetual	provide		to law
and Convertible Sukuk (as kept under Shelf Registration) into 50,000,000		44 45 7 L G	Way!
ordinary shares of the Company on triggering events as deliberated in			
the scheme.	7714		
RESOLVED FURTHER THAT any delay or non-approval of the			
registration/licensing of the Transferee Company to act as a central			
depository for performing functions as described in the Scheme: the			
merger of the companies as per the instant Scheme shall not be			
affected because the same is hereby considered beneficial for the			
snareholders of both the companies.			
RESOLVED FURTHER THAT pursuant to the provision of Section 370 to			
283 of the Companies, Act, 2017 and other applicable provisions,			
necessary joint/separate application(s), petition(s) and may be moved by			
the Chief Executive Officer or the Company Secretary of Digital			
Custodian Company Limited singly before the Honorable Lahore High			
Court, Lahore, for seeking its directions as to convening, holding and		4	
conducting of any meeting(s) of the shareholders and creditors (if any)			
or dispensation thereof, as the case may be, including for the			
appointment of the Chairman, issuance and dispatch of notices and			
placement of advertisements and for any fire and dispatch of notices and			
placement of advertisements and for seeking any other directions as the	ad the interest		
Honorable Lahore High Court, Lahore, may deem fit and proper and for	Date 1 . Nov. 6	formation of	
seeking the approval of the proposed amalgamation/ merger and the	G TOWARD D	at extra high	
proposed Scheme of Amalgamation/Merger.	TATOR IN SUIT	THE PERSON SELECTION	
RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive or the Company Secretary	AL DEVICE SU		THE PARTY
of Digital Custodian Company Limited and/or LSE Ventures Limited (as	e Ebustias A	Tall advices	25 313
he case may be), be and is hereby singly authorized to sign, submit or	Androuse sign	that Nuclearly	
resent necessary applications, petitions, supplementary applications	distribution to	a barnenous	MAN TOP
petitions, summons, deeds, documents, instruments, rejoinders,	army and the	NATE BUT STORY	
epiles, and to swear affidavits or execute bonds for the above	61 (62 16 VI)	zadyo la va	
rentioned amalgamation/merger to the competent authorities	NO book sound	Marcol (Pho	
icluding but not limited to Honorable Lahore High Court Lahore the	de la contraction de	rateV orrests	
ecurities & Exchange Commission of Pakistan, and the Competition	THE PLANT	Hes an oppi	
ommission of Pakistan.	Aren an anti-	suffer said	
ESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer or the Company	TOTAL STATE	(4.00 to 10.00 to 10.	10 101 01
ecretary of Digital Custodian Company Limited he and are hereby	No. of Lot		
ngly authorized to submit the certified true conies of the resolutions	SOC SUBSE	1500 51 ALL	
assed by the shareholders of the Company (i.e. respective)	to endered	are adviced	
ompany/corporate undertaking) to the Honorable Lahore High Court	AND MEDICAL PROPERTY.		
anore, the Registrar of Companies, the Securities and Evchange	2017211117		
ommission of Pakistan, Pakistan Stock Exchange Limited and such other		The Control	
ompetent authorities, if necessary.			
ESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer or the Company	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	74	
ecretary of Digital Custodian Company Limited, be and are hereby	SETTINGS OF THE	N Brown Co.	
ngly authorized:			
To sign, submit or present necessary applications, petitions,	NAME OF THE PARTY	AT THE PARTY OF	
			4-55.5
documents, instruments, rejoinders, replies, and to swear affidavits			
or execute bonds for the above-mentioned amalgamation/ merger;	45 701 750 8	De des la despi	
To engage any counsel(s)/advocate(s)/consultant(s) to file the		Designation .	THE PER
application(s) and petition(s) before the Honorable Lahore High	THE BUILDING !	ace I to strain	in the
Court, Lahore, and to do other needful tasks;	1800 501 0.	one replaced to	
To appear fin person or through representative(a) but	5 Y 12 Y 15 15 12	Indigition and	Muud ser
	BILLI SHEET	Saudis Zierez	UT WITH
Honorable Lahore High Court, Lahore; the Offices of the Registrar of	halfperner o	17 S160 17 11 13	
the Companies; the Securities and Exchange Commission of	es actilization	nebunitario	
other authority or partial stock exchange Limited and/or before any	TEN WOOD TO	her reward and	
amalgametics (see see see see see see see see see s	na o albanie	& Bulying W	Will Trave
amaigamation/merger; and	rested to use	AL THE REAL PROPERTY.	
	Mar Maria	discount of	THE SOL
inside the det, deed or thing which may be ancillary or	AND THE STATE OF	HAVING T	
incidental to the above-mentioned matter or which may otherwise			
of	akistan; the Pakistan Stock Exchange Limited and/or before any their authority or person in connection with the aforesaid malgamation/merger; and to do any other act, deed or thing which may be ancillary or cidental to the above-mentioned matter or which may otherwise	akistan; the Pakistan Stock Exchange Limited and/or before any ther authority or person in connection with the aforesaid malgamation/merger; and o do any other act, deed or thing which may be ancillary or cidental to the above-mentioned matter or which may otherwise	ther authority or person in connection with the aforesaid malgamation/merger; and o do any other act, deed or thing which may be ancillary or

- Dully filled postal ballot should be sent to Chairman at above mentioned postal or email address.
- Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before March 15, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- Company shall draft ballot paper whereby explicit information, terms and conditions and choice of selection is provided and ensure that no confusion arise for voters that may defeat the objective of voting.